



## محمد عامر نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا

لاہور، 26 جولائی 2019ء :

قومی ٹیم کے فاسٹ بولر محمد عامر نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے تاہم وہ پاکستان کے لیے ایک روزہ اور ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کھیلتے رہیں گے۔

### محمد عامر:

فاسٹ بولر محمد عامر کا کہنا ہے کہ کرکٹ کے روایتی فارمیٹ میں پاکستان کی نمائندگی کرنا میرے لیے اعزاز تھا۔ میں آج طویل طرز کی کرکٹ سے علیحدگی اختیار کر رہا ہوں تاہم میں پاکستان کے لیے محدود اوورز کی کرکٹ کھیلتا رہوں گا۔

محمد عامر نے کہا کہ میرا اصل مقصد پاکستان کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کرنا ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں آئندہ میچز اور آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ورلڈکپ 2020 میں شرکت کے لیے اپنی فارم اور فٹنس برقرار رکھوں۔

فاسٹ بولر نے کہا کہ ٹیسٹ کرکٹ سے علیحدگی اختیار کرنے کا فیصلہ آسان نہیں تھا تاہم میں اس بارے میں کافی عرصے سے سوچ رہا تھا۔ میں آج ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتا ہوں تاکہ سلیکٹرز آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے لیے نوجوان فاسٹ بولرز کو قومی کرکٹ ٹیم میں جگہ دے سکیں۔

محمد عامر کا کہنا ہے کہ میں اس موقع پر ٹیسٹ کرکٹ میں اپنے ٹیم ممبرز اور حریف کھلاڑیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اپنے حلیف اور حریف کھلاڑیوں کے ساتھ ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے کو اعزاز سمجھتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ ہم اسی عزم اور حوصلے کیساتھ

مختصر دورانیے کی کرکٹ کھیلتے رہیں گے۔

فاسٹ بولر نے پاکستان کرکٹ بورڈ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ بورڈ نے مجھے اپنے سینے پر گولڈن اسٹار لوگو لگانے کا موقع دیا، میں پی سی بی کوچز کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے کیرئیر کے مختلف مراحل میں میری مدد کی۔

**وسیم خان، ایم ڈی پی سی بی:**

اس موقع پر ایم ڈی پی سی بی وسیم خان کا کہنا ہے کہ محمد عامر کا شمار موجودہ دور کے بہترین ٹیسٹ فاسٹ بولرز میں ہوتا ہے۔ بطور نوجوان کرکٹر محمد عامر مشکلات کو دور کر کے بہتر کرکٹر اور انسان بنے۔ قومی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم گراؤنڈ اور ڈریسنگ روم میں محمد عامر کی کمی محسوس کرے گی۔

وسیم خان کا کہنا ہے کہ ہم محمد عامر کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں، امید ہے محمد عامر محدود اوورز کی کرکٹ میں اپنا اہم کردار ادا کرتے رہیں گے۔

محمد عامر نے سال 2009ء جولائی میں سری لنکا کے خلاف گال ٹیسٹ میچ سے اپنے ٹیسٹ کیرئیر کا آغاز کیا تھا۔ محمد عامر نے 36 ٹیسٹ میچوں میں 30 کی اوسط سے 119 وکٹیں حاصل کی۔ محمد عامر کی ٹیسٹ کرکٹ میں بہترین بولنگ ویسٹ انڈیز کے خلاف سال 2017ء اپریل میں کنگسٹن کے میدان میں 44 رنز کے عوض 6 کھلاڑیوں کو آؤٹ کرنا تھا۔

– ENDS –

Media contact:

**Ibrahim Badees Muhammad**

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: [ibrahim.badees@pcb.com.pk](mailto:ibrahim.badees@pcb.com.pk)

M: +92 (0) 345 474 3486

W: [www.pcb.com.pk](http://www.pcb.com.pk)

#### **ABOUT THE PCB**

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its

goal is to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the country.

The PCB's purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men's and women's cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series.

The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training provision for officials and coaches.

Commercial Partners



[www.pcb.com.pk](http://www.pcb.com.pk) ●  
@therealpcb ●  
@PakistanCricketBoard ●  
@PakistanCricketOfficial ●  
@therealpcb ●

**PCB Headquarters**  
Gaddafi Stadium  
Ferozpur Road, Lahore  
Pakistan, PO Box 54000  
T: +92 42 3571 7231-4